

از عدالتِ عظمی

تاریخ فصلہ: 14 اپریل 1952

مہا یئر گوپ و دیگر اال
بنام
ہر بنس نارائے سگھ و دیگر اال

[مہر چند مہاجن، چند رشکھر ایئر اور دیوین بوس جسٹس صاحبان]

بہار کرایہ داری ایکٹ، 1937ء، دفعات 5(2)، 20، 21- زری پیشگی پڑھے۔ رہن دار کے ذریعہ 3 سال کی
مدت کے لیے پڑھے۔ 30 سال سے زیادہ عرصے تک قبضے میں رہنے والا پڑھے۔ آیارہائی حقوق حاصل کرتا
ہے۔ پڑھے کی تعمیر۔ رہن دار کا پڑھے پر دینے کا اختیار۔ حدود۔ جائیداد کی مستقلی ایکٹ، (IV، سال 1882ء)
دفعہ 76 (a) اور (e)۔

عام اصول کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس سے بہتر لقب منتقل یا دوسری صورت
میں عطا نہیں کر سکتا جو اس کے پاس ہے اور اس لیے رہن دار رہن والی جائیداد میں سود پیدا نہیں کر سکتا
جور رہن دار کے طور پر اس کے سود کے خاتمے سے آگے بڑھ جائے گا۔ مزید برآں، رہن رکھنے والا رہن
کے عمل کے دوران اس انداز میں راہنوں کے مفادات کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ پڑھے دینا جو
کرایہ دار کو زمین میں مستقل رہائشی کے حقوق حاصل کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، اس طرح راہنوں کے
خاص قبضے کے حق کو شکست دے سکتا ہے۔

دانشمندانہ انتظامیہ کے دوران کرایہ دار کے ساتھ قبضے میں رہن دار کی طرف سے جائز تصفیہ اور
مطلوبہ مدت کے لیے زمین اور ملکیت کی نوعیت کی بنیاد پر قانون کے ذریعے دیے گئے یا بنائے گئے کرایہ
دار کے حقوق کو بڑھانا عام اصول سے مستثنی ہے، لیکن اس استثنی کے تحت آنے کے لیے رہن دار کی
طرف سے کرایہ دار کا تصفیہ حقیقی ہونا چاہیے۔ استثنی اس صورت میں لاگو نہیں ہو گا جہاں رہن کی

شراکٹر، من دار کو زمین پر کرایہ داروں کا کوئی تصفیہ کرنے سے منع کرتی ہیں یا تو واضح طور پر یا ضروری مضمرات کے ذریعے۔

جہاں ایک زور بیسیگی اجارا نامہ میں مندرجہ ذیل شق موجود ہو؛ "یہ مطلوب ہے کہ اجارا دار اجارا (اس کی اپنی کاشت کے تحت خود کاشت زمین ہونے کے ناطے) میں چھوڑے گئے حصے پر قبضہ کریں ان پر کھیتی کریں، سال بہ سال ہمیں، عمل درآمد کرنے والوں کو 2 آنے محفوظ کرایہ ادا کریں، اور اس کے اجارا سود کی وجہ سے سال بہ سال اس کی پیداوار کو موزوں کرتے ہیں اور اس کرایہ دار کے ذریعے عمل درآمد دی گئی قبولیت جس کو اراضی 3 سال کی مدت کے لیے رہن کے ذریعے پڑھ پر دی گئی تھی، جس میں اجارا نامہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں ایک واضح شق موجود ہے کہ وہ (کرایہ دار) پڑھ کی میعاد ختم ہونے پر ڈیکا زمین کا قبضہ چھوڑ دے گا، اس بنیاد پر کوئی دعویٰ کیے بغیر کہ زمین اس کی کاشت زمین تھی: حکم ہوا کہ: عدالت عالیہ کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تصفیہ حقیقی نہیں تھا اور کرایہ دار (مدعاعلیہا) کے جانشینوں نے بہار کرایہ داری قانون کے تحت تباہ شدہ زمینوں کے رہائشی حقوق حاصل نہیں کیے حالانکہ زمینیں پڑھ کی میعاد ختم ہونے کے بعد 30 سال سے زیادہ عرصے سے کرایہ دار اور اس کے جانشینوں کے قبضے میں تھیں۔

مزید حکم ہوا کہ، مدعاعلیہا بہار کرایہ داری قانون کی دفعہ 20 اور 21 کے تحت قبضے کے حقوق حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ رہن دار نہ تو "مالک" تھا اور نہ ہی "میعاد قبضہ دار" یا "اندر میعاد قبضہ دار" اور کرایہ دار اور اس کے جانشین اس لیے مذکورہ قانون کی دفعہ 5، شق (2) کے معنی میں "طے شدہ ریبات" نہیں تھے۔

مانجیل لال بسو انا تھ شاہ دیوبنام شیخ محبی الدین (آئی ایل آر 24 ملکتہ 272)، بابو بیر و ناتھرے بنام شنکے پہاں (آئی ایل آر 8 پٹنہ 31) اور بندہ لال پکراشی و دیگر اس بنام کا لوپر مائنک و دیگر اس (آئی ایل آر 20 ملکتہ 708) ممتاز ہیں۔

پیلیٹ دیوانی کا دائرہ اختیار: دیوانی اپیل نمبر 143، سال 1951۔ پٹنہ میں ماتحت مچ کے ٹائٹل سوٹ نمبر 4/55، سال 1943-45 میں 31 جنوری 1946 کی ڈگری سے پیدا ہونے والی اصل ڈگری

نمبر 206، سال 1946 سے اپیل میں پٹنہ میں نظامِ عدالیہ کی عدالت عالیہ (روبن اور جمور جسٹس صاحبان) کے 23 مارچ 1950 کے فیصلے اور ڈگری سے خصوصی اجازت کے ذریعے اپیل۔

سید مر تڑہ فضل علی اپیل گزاروں کے لیے۔

جواب دہند گان نمبر 1 سے 9 کے لیے این سی چڑھی (اے این سنہا، ان کے ساتھ)۔

جواب دہند گان نمبر 11 تا 16 کے لیے بی کے سرن۔

14.1952 اپریل۔

عدالت کا فیصلہ جسٹس چندر شیکھ رائیر نے سنایا۔

یہ پٹنہ عدالت عالیہ کی ڈگری سے مدعا علیہاں کی طرف سے پٹنہ میں ماتحت نجع عدالت کی ڈگری کو الٹ دینے اور مدعا علیہاں کے مقدمے کو مدعا علیہاں کے پہلے فریق کے خلاف قبضہ کرنے کی اپیل ہے جسے سہولت کی غاطر گوپس کہا جاسکتا ہے۔

یہ اراضی حود کاشت اراضی تھی، جو جزوی طور پر مدعا علیہ کے پہلے فریق سے تعلق رکھتی تھی اور جزوی طور پر مسماۃ انارو کیور سے تعلق رکھتی تھی، جس سے مدعا علیہ کے دوسرے اور تیسرا فریق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مدعا علیہ کے پہلے فریق کے آباؤ اجداد نے نمائش 1(b) کے تحت مدعا علیہ کے دوسرے فریق کے آباؤ اجداد میں سے ایک لکندیو سنگھ کو ملکیت کے ساتھ ایک اجارا 540 روپے میں 1307 پھسلی سے لے کر 1312 پھسلی تک چھ سال کی مدت کے لیے دیا۔ پونٹی کی رقم 1312 کے آخر میں ایک یک مدقی رقم میں ادا کی جانی تھی۔ اگر فدیہ نہ ہو تو اجارہ رقم کی واپسی تک جاری رہنا تھا۔ مسماۃ انارو کیور نے اجارا میں اپنا حصہ اسی لکندیو سنگھ کو 10 جون 1905 کو زبانی طور پر تین سال کی مدت کے لیے 542 روپے میں دے دیا۔ لکندیو سنگھ، جس کی نمائندگی اب مدعا علیہ دوسرے فریق کے ذریعے کی جاتی ہے، نے اس طرح مدعا علیہ پہلے فریق کے ایک آباؤ اجداد رام لال گوپ کے ساتھ اس کے ذریعے حاصل کی گئی زمین (8.26 اکریٹر یا 13. بیگھا مجموعی طور پر) کا تصفیہ پھسلی 1315 سے پھسلی 1318 تک تین سال کی مدت کے لیے کیا۔ کرامیہ دار کے حق میں پٹہ اور مالک مکان کے حق میں کابلیلات تھی۔ یہ 1908 کی بات

ہے۔ رہن کو جون 1942 میں ٹرانسفر آف پر اپرٹی ایکٹ کی دفعہ 83 کے تحت کارروائی میں ادا بیگنی کے ذریعے چھڑایا گیا، جب مدعی قبضہ کرنے گئے تو گوپس (مدعاعلیہ پہلا فریق) نے ان کی مخالفت کی، اور ناکام فوجداری کارروائی کے بعد مدعیوں نے موجودہ مقدمہ دائر کیا۔ ماتحت نجح نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گوپی ریبیات تھے جنہوں نے رہن دار، لکندیو سنگھ کے تصفیے کے نتیجے میں زمینوں پر مستقل رہائشی کے حقوق حاصل کیے تھے۔ اپیل پر عدالت عالیہ نے اس فیصلہ کو کا عدم قرار دے دیا اور مدعیوں کو اس نتیجے پر قبضہ کرنے کی ڈگری دی کہ مدعاعلیہان ریبیات نہیں تھے اور انہیں رہائشی کا کوئی مستقل حق نہیں تھا۔ اس عدالت نے مدعاعلیہان کو اپیل کرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔

مقدمہ مدعاعلیہ دوسرے فریق سے معاوضے یا نقصانات کے طور پر زمین کی قیمت کی وصولی کے مقابل میں تھا اگر یہ پایا گیا کہ مدعاعلیہ پہلے فریق کو بید خل نہیں کر سکتا ہے۔ ٹرائل عدالت نے اس مقابل دعوے کو منظور کر لیا اور مدعی کو 200 روپے فی بیگنا کی شرح سے معاوضہ دیا۔ مدعاعلیہ دوسرے فریق نے عدالت عالیہ میں اپیل میں معاملہ اٹھایا اور کامیاب ہوا۔ لیکن موجودہ اپیل میں اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔

مقدمے کی سماعت میں، مدعیوں نے الزام لگایا اور کہا کہ یہ زمینیں بہار کرایہ داری قانون کی دفعہ 116 کے معنی میں ان کی زیرات اراضی ہیں اور مدعاعلیہ اول فریق اس میں رہائشی کے کوئی حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ ماتحت نجح نے اس دلیل کے خلاف پایا اور فیصلہ دیا کہ وہ مالک کی حود کاشت یا باکاشت اراضی ہیں، جس میں قبضے کے حقوق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے مدعاعلیہان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ وہ ان کی آبائی ریبیات کی زمینیں ہیں: انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ زمینوں کے تصفیے کے معاملے میں رہن دار لکندیو سنگھ اور رام لال گپ کے درمیان کوئی گلط جوڑ نہیں تھا۔ یہ ان نتائج کی بنیاد پر ہے جنہیں دونوں فریقوں نے قبول کیا تھا کہ اپیل کی سماعت عدالت عالیہ کے سامنے ہوئی۔

بنگال انڈیگو کمپنی بنام رو گھور داس (1) میں پریوی کو نسل کے دفعات کے مطابق "زور پیشگی پڑھ کرایہ پر زمین کی کاشت کا محض معاہدہ نہیں ہے، بلکہ کرایہ دار کے لیے پیشگی رقم کی ضمانت ہے"۔ انہوں نے اپنے سامنے موجود پڑھوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ "زیر بحث پڑھ محض زمین کی

کاشت کے معاهدے نہیں تھے؛ بلکہ یہ کہ ان کا ارادہ کرایہ دار کے لیے اصل رقوم جو اس نے پیش کی تھی، اور اس پر سود کے لیے ایک حقیقی اور درست صفائحہ تشکیل دینا تھا۔ ان کے ماتحت کرایہ داروں کی ملکیت، کم از کم جزوی طور پر، صرف کاشتکاروں کی نہیں تھی، بلکہ قرض دہندگان کی تھی جو ان کی صفائحہ کے ذریعے ان کے واجب الادا قرض کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ”یہ الفاظ ہمارے سامنے اجارانامہ پر لاگو ہوتے ہیں؛ اس کا غالب ارادہ پیشگی قرض کے لیے صفائحہ فراہم کرنا تھا کہ مالک مکان اور کرایہ دار کے کسی رشتے کو وجود میں لانا۔

عام اصول یہ ہے کہ کوئی شخص مستقل کے ذریعے یادوسری صورت میں کسی دوسرے کو اس سے بہتر حق نہیں دے سکتا جو خود اس کے پاس ہے۔ اس لیے کوئی رہن دار رہن والی جائیداد میں سود پیدا نہیں کر سکتا جو رہن دار کے طور پر اس کے سود کے خاتمے سے آگے بڑھے۔ مزید برآں، رہن دار، جو رہن والی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، اس کا انتظام اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک عام سمجھدار شخص اس کا انتظام کرے اگر یہ اس کا اپنا ہو؛ اور اسے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو جائیداد کے لیے تباہ کن یا مستقل طور پر نقصان دہ ہو؛ پر اپرٹیٹransfer ایکٹ کی دفعہ 76، ذیلی شق (a) اور (ai) دیکھیں۔ اس کے بعد وہ رہن کی مدت سے آگے نہ بڑھے ہوئے پڑے دے سکتا ہے؛ اس کی طرف سے دیئے گئے کسی بھی پڑے کو چھٹکارے پر ختم ہونا چاہیے۔ کوئی رہن دار رہن کے قیام کے دوران اس طرح سے رہن دار کے مفادات کے لیے نقصان دہ کام نہیں کر سکتا جیسے کہ پڑے دینا جو کرایہ دار کو زمین میں مستقل یارہائی کے حقوق حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جس سے رہن دار کے خاص قبضے کے حق کو شکست پہنچتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہو گا جو ٹرانسفر آف پر اپرٹیٹransfer ایکٹ کی دفعہ 76، ذیلی شق (e) توضیعات کے تحت آتا ہے۔

دانشمندانہ انتظامیہ کے دوران کرایہ دار کے ساتھ قبضے میں رہن دار کا جائز تصفیہ اور کرایہ دار میں مطلوبہ مدت کے لیے زمین اور ملکیت کی نوعیت کی بنیاد پر قانون کے ذریعے دیے گئے یا بناۓ گئے حقوق کا ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ عام اصول سے مستثنی ہے۔ رہن کی تلافی کے بعد بھی کرایہ دار کو رہن دہنده کے ذریعے بید خل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ بعض صورتوں میں رہائیشی رسیات اور دیگر صورتوں میں غیر رہائیشی رسیات بن سکتا ہے۔ لیکن رہن دار کی طرف سے کرایہ دار کا تصفیہ ضرور ایک حقیقی تصفیہ رہا

ہو گا۔ یہ رعایت اس صورت میں لا گو نہیں ہو گی جہاں رہن کی شرائط رہن دار کو زمین پر کرایہ داروں کا کوئی تصفیہ کرنے سے منع کرتی ہیں یا تو واضح طور پر یا ضروری مضمرات کے ذریعے۔

جہاں تمام مالک مکان حقوق رہن دار کو دیے جاتے ہیں، اس دستاویز کی مناسب تعمیر پر یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انتظام کے عام عمل میں کچھ حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ منحیل لال بسو انتح شاہ دیوبنام شیخ محمد الدین (1) کے معاملے میں، رہن دار کی طرف سے کرایہ داروں کے ساتھ زمینوں کا تصفیہ کر سکتا ہے اور کرایہ دار کرایہ داروں کی حیثیت سے زمین میں کچھ حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ منحیل لال بسو انتح شاہ ہوئی ریاتی زمین کا حقیقی تصفیہ کیا گیا تھا اور یہ قرار دیا گیا تھا کہ رہن وصولی کے بعد انہیں بے دخل کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ بابو بھیر و ناتھ رے بنام شنکے پہاں (2)، کے پہلے فیصلے جو کہ باکاشت زمینوں سے متعلق ہے، اور زور پیشگی پڑھ میں کرایہ داروں کے تصفیے کے حوالے سے رہن دار کرایہ دار کے اختیار کو محدود کرنے کا کوئی اتزام نہیں تھا۔ خود کاشت کی زمینیں اور باکاشت کی زمینیں حقیقت میں ریاتی زمینوں کی نوعیت کی ہوتی ہیں جو سپرگی، ترک کرنے یا خریداری کے ذریعے مالک کے قبضے میں آتی ہیں۔

موجودہ معاملے میں، ہمارے پاس اجارانامہ میں درج ذیل شق ہے: "یہ خواہش کی جاتی ہے کہ اجاردار اجارا میں چھوڑے گئے حصے پر قبضہ کرے اور اس پر رہائش پزیر ہو (اس کی اپنی کاشت کے تحت خود کاشت زمین ہونے کے ناطے)، ان کی کاشت کرے، ہمیں، عمل درآمد دینے والوں کو سال بہ سال 2 انے مخصوص کرایہ کے طور پر ادا کرے، اور اس کی پیداوار کو سال بہ سال اس کے اجارداری سود ہونے کی وجہ سے استعمال کرے۔" یہ اصطلاح رہن دار کو رہن والی زمین پر کرایہ داروں کا پتہ لگانے سے محروم کر دیتی ہے۔ مدعی علیہاں کے پہلے فریق کے دادا رام لال گپت، جنہوں نے 1908 میں قابلیت کو عمل درآمد دی تھی، کو لاکنڈیو سنگھ کے حق اور ان شرائط کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جن کے تحت اراضی رجسٹر ڈزور پیشگی اجارانامہ کے تحت تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ کرایہ دار نہ صرف 3 سال کی مدت کے لیے پڑھ لیا، بلکہ پڑھ کی مدت ختم ہونے پر تھیکا کی زمینوں پر قبضہ چھوڑنے کا واضح طور پر عہد کیا، بغیر کسی دعوے کے کہ زمینوں کے بنیاد پر زور دیا۔ اس کی پرانی کاشت زمینیں تھیں۔ ان کی قابلیات (نمائن 11) درحقیقت لکنڈیو سنگھ کی اجارداری دلچسپی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان حقائق کے پیش

نظر، عدالت عالیہ کے فاضل جوں نے کہا کہ وہ یہ موقف اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تصفیہ حقیقی تھا یا رہن دار ان زمینوں کو آباد کرنے میں اس کے حقوق کے اندر تھا۔

اپیل گزاروں کے لیے مکمل بخش کے فیصلے بناد لال پکر شی و دیگر اس بنام کا لوپرمانک و دیگر اس (1) پر سخت انحصار کھا گیا تھا جہاں یہ قرار دیا گیا تھا کہ ایک شخص جسے خلاف ورزی کرنے والے کے ذریعے بھی زمین کے قبضے میں لیا گیا ہے وہ بیگال کرایہ داری قانون کی دفعہ 5، ذیلی دفعہ 2 کے معنی میں غیر قبضہ شدہ ریسیات بن گیا اور اسے بید خلی سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ لیکن اس فیصلے کو بعد میں کئی معاملات میں اس تجویز کی بنیاد پر واضح کیا گیا ہے کہ حقوق ان کے ذریعے کسی ایسے شخص سے حاصل کیے گئے ہوں گے جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ وہ انہیں زمین پر قبضہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تاہم، لکند یو سنگھ کے حق میں اجارا نامہ اور رام لال گپ کے قابلیت میں ذکریات کے پیش نظر، یہاں ایسا نہیں ہے۔

بہار کرایہ داری قانون کی دفعہ 20 اور 21 کا حوالہ اپیل گزاروں کے وکیل نے اپنے دلائل کے دوران دیا تھا اور انہوں نے نشاندہی کی کہ اس معاملے میں زمین ان کے موقلوں اور ان کے پیشروں کے پاس 1908 سے 1942 تک مسلسل تھی، جب انہیں بید خل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان حصوں کو لا گو کرنے کے لیے، ہمیں اس حیثیت میں ہونا چاہیے کہ اپیل لکند گان "آباد شدہ ریسیات" تھے۔ "دفعہ 5 کی ذیلی شق 2 میں "ریسیات" کی تعریف اس طرح کی گئی ہے جس کا مطلب ہے "بنیادی طور پر ایک ایسا شخص جس نے خود یا اپنے خاندان کے افراد کے ذریعے کاشتکاری کے مقصد سے زمین پر قبضہ کرنے کا حق حاصل کر لیا ہو"۔ ذیلی شق 3 میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو ریسیات نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو فوری طور پر کسی مالک کے ماتحت یا فوری طور پر کسی میعاد قبضہ دار کے ماتحت زمین کا مالک نہ ہو۔ لکند یو سنگھ ایک "مالک" نہیں تھا جس کی اصطلاح سے مراد وہ شخص ہے جو مالک ہے، چاہے وہ ٹرست میں ہو یا اپنے فائدے کے لیے، کسی اسٹیٹ یا کسی اسٹیٹ کا حصہ: وہ صرف ایک رہن دار تھا نہ ہی وہ میعاد قبضہ دار یا اندر میعاد قبضہ دار تھا، کیونکہ وہ دفعہ 5 کی ذیلی شق (1) میں دی گئی تعریف کی تعمیل نہیں کرتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے مالک سے یا کسی دوسرے میعاد قبضہ دار سے کرایہ وصول کرنے کے مقصد سے یا کرایہ دار قائم کر کے زمین کو کاشت کے تحت لانے کے مقصد سے زمین حاصل کی تھی۔ اس معاملے میں جو ثبوت موجود ہے وہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمینیں مدعا کی کاشت کے تحت تھیں اور انہیں رہن دار کے قبضے

میں کر دیا گیا تھا تاکہ وہ خود ان کی کاشت کر سکے۔ لہذا، رام لال گپت یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ وہ گاؤں کے ایک آبادیاں تھے اور قانون کے تحت انہوں نے ان زمینوں پر ہاٹیش کے حقوق حاصل کیے جو انہوں نے لکنڈیو سنگھ سے پڑھ پر لیے تھے۔

آخر میں، اس بات کی تاکید کی گئی کہ مسماۃ انارو کو رکا اجرا یقینی طور پر زبانی لین دین تھا۔ اور جہاں تک اس کے حصے (3.97 ایکڑ) کا تعلق ہے کہ ایدے داروں کے ساتھ تصفیے کے خلاف کسی پابندی کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہ کہ اس علاقے کے حوالے سے فرقیں کے حقوق مدعی پہلے فریق سے تعلق رکھنے والے 4 ایکڑ اور 29 سینٹ کے حقوق سے مختلف ہوں گے۔ اس نتائج کو یونیچ کی عدالت عالیان میں نہیں لیا گیا جہاں لکنڈیو سنگھ کو دیے گئے دواجوں سے اس طرح نمٹا گیا جیسے کہ وہ ایک ہی لین دین، حقوق کا ایک ضروری حصہ ہونگے۔ اور واجبات، جو بھی وہ تھے، دونوں کے لیے مشترکہ تھے۔ ہم اب اس نقطہ کو لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی ڈگری کی تصدیق ہو جاتی ہے اور مدعاں۔ جواب دہندگان کے اخراجات کے ساتھ اپیل کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے جواب دہندگان کے اخراجات کے بارے میں کوئی حکم نہ ہے۔

اپیل مسترد کر دی گئی۔

اپیل گزاروں کے لیے ایجنسٹ: ایس پی ورما۔
جواب دہندگان کے لیے ایجنسٹ نمبر 1 سے 9: ایم ایم سنہا۔
جواب دہندگان کے لیے ایجنسٹ نمبر 11 سے 16: کے ایل مہتا۔